



Roll No.

--	--	--	--	--	--

Answer Sheet No.

Sig. of Candidate.

Sig. of Invigilator.

37

ECONOMICS HSSC-I

SECTION – A (Marks 20)

Time allowed: 25 Minutes

NOTE: Section-A is compulsory. All parts of this section are to be answered on the question paper itself. It should be completed in the first 25 minutes and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

Q. 1 Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark.

- (i) Who defined economics as a study of Material Welfare?
A. Robbins B. Marshall C. Ricardo D. Keynes
- (ii) Scarcity of resources exists _____
A. In poor countries only
B. Because people can not limit their wants
C. Because society produces less important goods
D. Because society does not use resources efficiently
- (iii) Profit is maximum when _____
A. TR is maximum B. TC is minimum
C. Sales are maximum D. Difference between TR and TC is maximum
- (iv) A factory is an example of _____
A. Capital B. Scarcity
C. Natural resources D. None of these
- (v) Marginal product curve intersects average product curve when Average product is _____
A. Maximum B. Minimum C. Rising D. Falling
- (vi) Demand for a factor of production is a/an _____ demand.
A. Joint B. Internal C. External D. Derived
- (vii) Which of the following is a characteristic of the economic laws?
A. They are universal B. They are conditional
C. They are predictable D. They are not optional
- (viii) Utility and usefulness are _____
A. Equal B. Different C. Similar D. Unrelated
- (ix) In case of substitutes the cross elasticity of demand is _____
A. Negative B. Positive C. Zero D. Infinite
- (x) Law of demand is based on the _____
A. Law of increasing return B. Law of diminishing return
C. Law of diminishing M.U D. None of these
- (xi) Which of the following is **NOT** a function of the entrepreneur?
A. To supervise B. To innovate C. To lend money D. To prepare plan
- (xii) What is the number of sellers in Perfect competition?
A. One B. Two C. A few D. Large
- (xiii) With an increase in the supply of money the quantity demanded _____
A. Increases B. Decreases C. Becomes zero D. Remains the same
- (xiv) When demand curve shifts to the left it means _____ (in demand).
A. Extension B. Contraction C. Fall D. None of these
- (xv) The formula of point elasticity of demand is used when _____
A. There is a large change in price B. There is a small change in price
C. There is no change in price D. There is no change in demand
- (xvi) Which year did Professor Adam Smith write "Wealth of Nations"?
A. 1878 AD B. 1776 AD C. 1876 AD D. 1778 AD
- (xvii) The necessary condition for equilibrium position of a firm is _____
A. $MC=MR$ B. $MC>MR$ C. $MR>MC$ D. $MC=AC$
- (xviii) Human wants _____
A. Create economic problem B. Compete with each other
C. Can be satisfied easily D. Both A and B
- (xix) Total cost curve _____
A. Starts from origin B. Touches x-axis
C. Touches y-axis D. None of these
- (xx) Efficiency of land depends upon the _____ for/of land.
A. Price B. Nature C. Mobility D. Demand

For Examiner's use only:

Total Marks:

20

Marks Obtained:

Roll No.

--	--	--	--	--

Answer Sheet No. _____

Sig. of Candidate: _____

Sig. of Invigilator: _____

معاشیات ایچ ایس ایس سی - ا

حصہ اول (کل نمبر: 20)

وقت: 25 منٹ

نوٹ: حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات پرچے پر ہی دیے جائیں گے۔ اس کو پہلے پچیس منٹ میں مکمل کر کے ناظم مرکز کے حوالے کر دیا جائے۔ کات کر دو بارہ لکھنے کی اجازت نہیں۔ ایڈیشنل کا استعمال ممنوع ہے۔

سوال نمبر: دیے گئے الفاظ یعنی الف ا ب ج 1 د میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہر جزو کا ایک نمبر ہے۔

- (i) الف۔ رابنر ب۔ مارشل ج۔ ریکارڈو د۔ کیئر
- (ii) الف۔ صرف غریب ممالک میں ج۔ کیونکہ معاشرہ کم اہم اشیاء پیدا کرتا ہے
- (iii) الف۔ کل حاصل زیادہ سے زیادہ ہو ج۔ فروخت زیادہ سے زیادہ ہو
- (iv) الف۔ فیٹری کسی کی مثال ہے؟ الف۔ سرمائے ب۔ کمیابی ج۔ قدرتی ذرائع د۔ درج شدہ میں سے کوئی نہیں
- (v) الف۔ زیادہ سے زیادہ ہو ب۔ کم سے کم ہو ج۔ مشترکہ طلب د۔ بیرونی طلب
- (vi) الف۔ مشترکہ طلب ب۔ اندرونی طلب ج۔ بیرونی طلب د۔ ماحول طلب
- (vii) الف۔ یہ ہمہ گیر ہیں ج۔ پیشگوئی کی جاسکتی ہے
- (viii) الف۔ افادہ اور فائدہ مندی ہیں ب۔ مختلف ج۔ ایک جیسے د۔ آپس میں کوئی تعلق نہیں
- (ix) الف۔ منفی ب۔ مثبت ج۔ قانون طلب کی بنیاد د۔ قانون تقبیل حاصل
- (x) الف۔ قانون تقبیل حاصل ب۔ قانون تقبیل حاصل ج۔ قانون تقبیل حاصل د۔ قانون تقبیل حاصل
- (xi) الف۔ درج ذیل میں سے کیا آجر کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ ج۔ تجربہ و تحقیق
- (xii) الف۔ ایک ب۔ دو ج۔ چند د۔ کثیر
- (xiii) الف۔ زر کی رسد بڑھنے سے مقدار طلب ب۔ کم ہوتی ہے ج۔ بڑھتی ہے د۔ بڑھتی ہے
- (xiv) الف۔ درج ذیل میں سے کیا آجر کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ ج۔ تجربہ و تحقیق
- (xv) الف۔ طلب کا بڑھنا ب۔ طلب کا سکڑاؤ ج۔ طلب کا بڑھنا د۔ طلب کا سکڑاؤ
- (xvi) الف۔ 1878ء ب۔ 1776ء ج۔ 1876ء د۔ 1778ء
- (xvii) الف۔ فرم کے توازن کے لیے ضروری شرط کیا ہے؟ ج۔ مختتم مصارف = مختتم وصولی
- (xviii) الف۔ انسانی خواہشات ج۔ معاشی مسئلہ پیدا کرتی ہیں
- (xix) الف۔ آسانی سے پوری کی جاسکتی ہیں ج۔ آسانی سے پوری کی جاسکتی ہیں
- (xx) الف۔ زمین کی قیمت ج۔ زمین کی طبعی خصوصیات

حاصل کردہ نمبر:

20

کل نمبر:

برائے معائن:



ECONOMICS HSSC-I

22

Time allowed: 2:35 Hours

Total Marks Sections B and C: 80

NOTE: Answer any fifteen parts from Section 'B (a)' one part from Section 'B(b)' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 50)

Q. 2 a. Attempt any FIFTEEN parts. The answer to each part should not exceed 3 to 5 lines. (15 x 3 = 45)

- (i) Define any three aspects of Utility.
- (ii) Write any three causes of the Rise and Fall in demand.
- (iii) What is meant by the Elasticity of supply?
- (iv) Define Applied economics.
- (v) Define Economic problem.
- (vi) What are the reasons for Negative slope of demand curve?
- (vii) Define Macro Economics.
- (viii) Define Variable. Differentiate between Continuous and Discontinuous variables.
- (ix) Write any three kinds of mobility of labour.
- (x) Solve the following equations to find equilibrium price and quantity, when $Q_d = Q_s$:
 $Q - 20 + 2P = 0$ $Q - 5 - 3P = 0$
- (xi) What is the difference between Stock and Supply?
- (xii) Write any three factors which determine the scale of production.
- (xiii) Write the conditions for perfect competition in market.
- (xiv) What is meant by least cost combination of factors of production?
- (xv) Write the reasons for low wages in Pakistan.
- (xvi) Differentiate between Gross Rent and Net Rent.
- (xvii) What is meant by Windfall gains and losses?
- (xviii) Write any three rules involved in Tabulation.
- (xix) Graphically show the five possibilities of the Elasticity of supply.
- (xx) Write any three merits of Joint Stock companies.
- (xxi) Differentiate between the Economic and Non-economic wants.

b. Attempt any ONE part.

(1 x 5 = 5)

- (i) Write a note on steps of capital formation from Saving to Real Investment.
- (ii) Explain the determination of Normal Price in the short period.

SECTION – C (Marks 30)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks.

(3 x 10 = 30)

Q. 3 Explain the law of Supply with the help of table and graph.

Q. 4 What is meant by equilibrium price? Explain the effect of the following on equilibrium price and quantity by drawing diagrams.

- a.** Demand increases more than increase in supply
- b.** Demand and Supply fall equally

Q. 5 Critically examine Marginal Productivity theory of wages.

Q. 6 Explain internal and external economics of scale.

کل نمبر حصہ دوم اور حصہ سوم : 80

وقت : 2:35 گھنٹے

نوٹ: حصہ دوم اور سوم کے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ حصہ دوم۔ الف میں سے پندرہ (15) اجزاء دوم۔ ب میں سے ایک (1) جزو اور حصہ سوم میں سے کوئی سے تین (3) سوال حل کیجیے۔ ایکسٹرا شیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پر مہیا کی جائے گی۔ آپ کے جوابات صاف اور واضح ہونے چاہئیں۔

حصہ دوم (کل نمبر 50)

(15 x 3 = 45)

سوال نمبر ۲: الف۔ مندرجہ ذیل اجزاء میں سے پندرہ (15) کے تین سے پانچ سطروں تک محدود جوابات لکھیں:

- افادہ کے کوئی سے تین پہلوؤں کی تعریف کریں۔
- طلب کے بڑھنے اور طلب کے گرنے کے کوئی سے تین اسباب لکھیں۔
- رشد کی چلک سے کیا مراد ہے؟
- اطلاقی معاشیات کی تعریف کریں۔
- معاشی مسئلہ کی تعریف کریں۔
- خط طلب کے منفی بھکاؤ کی کیا وجوہات ہیں؟
- کلی معاشیات کی تعریف کریں۔
- متغیر کی تعریف کریں۔ نیز متغیر مسلسل اور متغیر غیر مسلسل میں فرق تحریر کریں۔
- محنت کی حرکت پذیری کی کوئی سی تین اقسام لکھیں۔
- متوازن قیمت اور متوازن مقدار معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مساوات کو حل کریں جبکہ مقدار طلب = مقدار رسد۔

$$Q - 5 - 3P = 0 \quad Q - 20 + 2P = 0$$
- ذخیرہ اور رسد میں کیا فرق ہے؟
- پیمانہ پیداوار کا تعین کرنے والے کوئی سے تین عوامل لکھیے۔
- منڈی میں مکمل مقابلہ کی شرائط لکھیے۔
- کم سے کم لاگت پر عاملین پیداوار کے اشتراک سے کیا مراد ہے؟
- پاکستان میں کم اجرت ہونے کی وجوہات لکھیں۔
- خالص لگان اور خام لگان میں فرق تحریر کریں۔
- اتفاقیہ منافع اور نقصان سے کیا مراد ہے؟
- جدول بندی کے کوئی سے تین اصول لکھیں۔
- رشد کی چلک کی پانچ ممکنہ صورتیں ڈائیگرام کی مدد سے بیان کریں۔
- مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کی کوئی سی تین خصوصیات لکھیں۔
- معاشی حاجات اور غیر معاشی حاجات میں فرق تحریر کریں۔

(1 x 5 = 5)

ب۔ مندرجہ ذیل اجزاء میں سے کسی ایک (1) کا جواب لکھیں:

- تفکیلی سرمایہ کے لیے بچت سے حقیقی سرمایہ کاری تک کے اقدامات پر نوٹ لکھیں۔
- عرصہ قلیل میں معیاری قیمت کا تعین واضح کریں۔

حصہ سوم (کل نمبر 30)

(3 x 10 = 30)

(کوئی سے تین سوال حل کیجیے۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔)

- سوال نمبر ۳: قانون رسد گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے واضح کریں۔
- سوال نمبر ۴: متوازن قیمت سے کیا مراد ہے؟ مندرجہ ذیل صورتوں کا متوازن قیمت اور متوازن مقدار پر اثر ڈائیگرام کے ذریعے واضح کریں:
 الف۔ طلب میں اضافہ و رسد میں اضافہ سے زیادہ ہو
 ب۔ طلب اور رسد میں برابر کی ہو
- سوال نمبر ۵: اجرت کے نظریہ ختم پیداواری کا تنقیدی جائزہ لیں۔
- سوال نمبر ۶: پیمانے کی اندرونی اور بیرونی کفایتیں واضح کریں۔